

Tarjuma Tul Quran Majeed - FA Part 2 Tarjimatul Quran Chapter 3 Short Questions Test

Q1. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے سورۃ البقرہ کو قرآن مجید کو کیا کہا ہے۔

Ans 1: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا: ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن مجید کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔

Q2. -سورۃ البقرہ کے مضامین کی گہرائی اور وسعت کے بارے میں تحریر کریں۔

Ans 1: سورۃ البقرہ کے مضامین کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو اس سورت کو مکمل طور پر سیکھنے میں بارہ سال لگے، جب کہ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کو آٹھ سال میں اس کے تمام مضامین کے ساتھ سیکھا۔

Q3. سورۃ التوبہ کون سی سورت ہے۔

Ans 1: سورۃ التوبہ مدنی سورت ہے۔

Q4. -سورۃ آل عمران کے دو اور نام تحریر کریں۔

Ans 1: سورۃ آل عمران کا ایک امان اور ایک نام زہرا ہے۔

Q5. غزوہ تبوک سے کیا نتائج حاصل ہوئے؟

Ans 1: غزوہ تبوک کے لیے مسلمانوں کی جنگی مہم جوئی نے اسلامی دعوت کو بہت قوت پہنچائی۔ مسلمانوں کا عزم اور ہمت دیکھ کر کافروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ یہ دیکھ کر روم کا بادشاہ برقل بہت مرعوب ہوا۔ ایلہ کے رئیس یوہنا نے جزیہ دینا قبول کیا۔ تمام حاکموں نے جزیہ دینے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے زیر سایہ رہنے پر آمادگی ظاہر کی۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی۔

Q6. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بارے میں کیا فرمایا۔

Ans 1: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سورۃ البقرہ پڑھا کرو اس کے پڑھنے میں برکت، چھوڑنے میں حسرت اور بد نصیبی ہے اور اہل باطل (جادوگر، کابن، اور مکار) لوگوں کا اس پر بس نہیں چلتا (یعنی ان کا فریب اثر نہیں کرتا)۔

Q7. اسلام سے پہلے مال غنیمت کے بارے میں کیا تصور تھا؟

Ans 1: ظہور اسلام سے قبل ہونے والی جنگوں میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ میدان جنگ میں و مال جس کے ہاتھ آگیا وہ اسی کی ملکیت ہے۔ اس زمانے میں لوگ مال و دولت کے حصول کے لیے بھی جنگوں میں شریک ہوتے تھے۔ سورۃ الانفال میں اس جابلانہ تسور کی نفی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اسلام میں جہاد کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔

Q8. -لفظ کے معنی تحریر کریں۔ یسلونک۔ اصلحوا۔ وجلت۔ یتوکلون۔ قتہ۔ ففتشلوا۔ بطرا۔

Ans 1: یسٹونک۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اصلحوا۔ درست رکھو۔ وجلت۔ کانپ اٹھتے ہیں۔ ینوکلون۔ وہ توکل کرتے ہیں۔ فنتہ۔ کوئی لشکر فنشلاوا۔ ورنہ تم کم ہمت بوجاؤگے۔ بطرا۔ اکڑتے ہونے

مندرجہ ذیل لفظ کے معنی تحریر کریں۔ ریب - یقیمون - ینفقون - یوقنون - ام - ختم. Q9.

Ans 1: ریب - شک یقیمون - وہ قائم کرتے ہیں۔ ینفقون - وہ خرچ کرتے ہیں۔ یوقنون - وہ یقین رکھتے ہیں۔ ام - یا ختم - مہر لگادی

مباہلہ کے کیا معنی ہے. Q10.

Ans 1: مباہلہ کے معنی ہے کہ کسی عقیدے کے بارے میں مختلف آرا رکھنے والے لوگ نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کریں کہ ان میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پکڑ ہو۔